

روزہ، تراویح اور زکوٰۃ کے متعلق اہم

# احکام و مسائل

(فصول فی الصیام والتراویح والزکوٰۃ باللغة الاردية)

تألیف

فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

عطاء الرحمن ضیاء اللہ

طبعات و اشاعت

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ الجالیات ربوبہ، ریاض

ملکت سعودی عرب

islamhouse.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله نحمسد، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعود  
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلامضل  
له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه  
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم  
تسلیماً، أما بعد:

ماه رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت  
میں درج ذیل فصول پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے  
عمل کو خالص اپنے لیے، اپنی شریعت کے مطابق اور اپنی مخلوق کے لیے فائدہ  
مند بنائے، پیش کرو ہو اور کرم نواز ہے:

**پہلی فصل:** روزہ کے حکم کے بیان میں۔

**دوسری فصل:** روزہ کی حکمتوں اور فوائد کے بیان میں۔

**تیسرا فصل:** مسافر اور مریض کے روزے کے حکم کے بیان میں۔

**چوتھی فصل:** مفہادات صائم یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں۔

**پانچویں فصل:** تراویح کے بیان میں۔

**چھٹی فصل:** زکوٰۃ اور اس کے فوائد کے بیان میں۔

**ساتویں فصل:** اہل زکوٰۃ کے بیان میں۔

**آٹھویں فصل:** زکوٰۃ الفطر کے بیان میں۔

## فصل اول: روزہ کے حکم کے بیان میں

ماہ رمضان کا روزہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور مسلمانوں کے اجماع کے ذریعہ ثابت شدہ ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِّنْ كِتَابِنَا إِنَّمَا مَنْ كِتَابًا مِّنْ كِتَابِنَا مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاهُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی

دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتنا را گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تیزی کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرا دن دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، بختی کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ (البقرة: ۱۸۳-۱۸۵)

اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حجّ کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ

رکھنا،۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے:

((رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا))۔

نیز ماہ رمضان کے روزہ کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، چنانچہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزہ کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد اور کافر ہے، اس سے توبہ کرایا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کی فرضیت کا اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے کافر ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔  
ماہ رمضان کا روزہ هجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے نور رمضان کے روزے رکھے۔

روزہ ہر باغ و عاقل مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا کافر پر روزہ واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا روزہ مقبول ہو گا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ نیز کم سن بچ پر بھی روزہ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ پندرہ سال کی عمر پوری کر لے، یا اس کے زیرِ ناف بال آگ آئے، یا احتلام وغیرہ کے ذریعہ اس سے منی نکلنے

لگ۔ اور عورت کی بلوغت کی پہچان کے لیے ایک مزید علامت دم حیض (ماہواری) کا آنا بھی ہے۔ جب کم سن پچ (پچی) کے اندران میں سے کوئی علامت پائی جائے تو وہ بالغ ہو گیا، لیکن پھر بھی کم سن پچ اگر بغیر کسی ضرر و نقصان کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا تاکہ اسے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے اور وہ اس سے منوس ہو جائے۔

جنون (پاگل پن) یاد مانگ بدلنے یا کسی اور وجہ سے عقل کھو دینے والے شخص پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بنابریں اگر انسان معمراً اور بڑی عمر کا ہے کہ وہ ہذیان بکتا اور یا وہ گوئی کرتا ہے اور اس کی تمیز کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے نہ ہی اس کے بعد لکھانا کھلانا۔

### **فصل دوم: روزہ کی حکمتیں اور اس کے فوائد کے بیان میں**

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنی میں سے ایک نام ”الحکیم“ ہے، اور حکیم اسے کہتے ہیں جو حکمت سے متصف ہو، اور حکمت کا مطلب ہے امور کو مضبوط کے ساتھ انجام دینا اور انہیں ان کے مناسب مقام پر رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنی میں سے اس نام کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا یا

مشروع فرمایا ہے اس کے اندر ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے، جسے جاننے والے جانتے ہیں اور نہ جاننے والے اس سے نا بلد ہیں۔

جو روزہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا اور اسے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں اور بہت سارے فائدے ہیں:

✿ روزہ کی منجملہ حکمتوں میں سے یہ ہے کہ: وہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنی فطری طور پر محبوب چیزوں لیعنی کھانا، پانی اور ہمستری وغیرہ ترک کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اس کی کرامت کے گھر (جنت) سے سرفراز ہو، اس سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی محبوب چیزوں کو اپنے نفس کی محبوب چیزوں پر اور دار آختر کو دنیا پر ترجیح اور فوقيت دیتا ہے۔

✿ روزہ کی ایک حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر روزہ دار اپنے روزہ کے فریضہ کی بخوبی ادا نہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِّنْ كِتَابِنَا إِنَّمَا أَنْهَاكُمُ الظَّنُونُ عَنِ الْأَدْلِيَةِ الَّتِي أَنْهَاكُمْ عَنْهَا إِنَّمَا أَنْهَاكُمُ الظَّنُونُ عَنِ الْأَدْلِيَةِ الَّتِي أَنْهَاكُمْ عَنْهَا﴾

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ (البقرۃ: ۱۸۳)

لہذا روزہ دار اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا مامور ہے، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور یہی روزہ کا مقصود اعظم ہے، اس کا مقصد روزہ دار کو کھانے، پینے اور ہمسٹری سے باز رکھ کر تکلیف دینا مقصود نہیں ہے،

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلُ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)).

جو شخص جھوٹ بولنے، اس پر عمل کرنے اور جہالت سے بازنہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔

( صحیح بخاری )

«قول الزور» سے مراد ہر حرام بات ہے، جیسے دروغ گوئی، غیبت، گالی گلوچ اور ان کے علاوہ دیگر حرام چیزیں۔ «والعمل بالزور» یعنی جھوٹ پر عمل کرنے سے مراد: ہر حرام کام پر عمل کرنا ہے جیسے خیانت، دھوکہ، جسمانی اذیت، مال و دولت چھین لینے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے ذریعہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اسی ضمن میں ان چیزوں کا سننا بھی داخل ہے جن کا سننا حرام ہے، جیسے حرام گانے اور آلات طرب و موسیقی وغیرہ۔ «والجهل» یعنی جہالت و نادانی سے مراد یہ یقونی اور کم عقلی ہے، یعنی قول عمل میں عقل و رشد سے کام نہ لینا۔

جب روزہ دار اس آیت اور حدیث کے تقاضے پر عمل پیرا ہو گا تو روزہ سے اس کے نفس کی تربیت، اس کے اخلاق کی شانستگی اور اس کے سلوک کی درستگی ہو گی، اور رمضان کا مہینہ جاتے جاتے وہ انہائی متاثر ہو گا جس کا اثر اس کے نفس، اس کے اخلاق اور اس کے سلوک میں نمایاں طور پر دکھائی دے گا۔

❖ روزہ کی حکمتوں میں سے یہی ہے کہ مالدار شخص اپنے اوپر اللہ تعالیٰ

کی طرف سے عطا کردہ مالداری کی نعمت کی قدر کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرعی طور پر حلال چیزوں میں سے اس کی من پسند چیزوں جیسے کھانا، پانی اور بیوی سے ہمستری وغیرہ کا حصول آسان کر دیا ہے اور اسے قضا و قدر کے طور پر بھی اس کے لیے میسر کر دیا ہے، چنانچہ اس نعمت پر وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اپنے اس فقیر و محتاج بھائی کو بھی یاد رکھتا ہے جسے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں اور اس پر صدقہ اور احسان کے ذریعہ سخاوت کرتا ہے۔

﴿روزہ کی حکمتوں میں سے نفس پر کنٹرول اور اس پر قابو حاصل کرنے کی مشق کرنا بھی ہے، تاکہ وہ اپنے نفس کو ایسی چیزوں میں لگا سکے جن کے اندر دنیا و آخرت میں اس کی خیر و بھلائی اور سعادت مندی ہے، اور اپنے آپ کو حیوان صفت انسان بننے سے دور رکھے جو مصلحت نفس کی خاطر اپنے نفس کو لذت و شہوات سے باز نہیں رکھ پاتا ہے۔﴾

﴿روزہ کی حکمتوں میں سے حفظانِ صحت سے متعلق فوائد کا حصول بھی ہے جو کھانے کو کم کرنے اور نظامِ ہضم کو ایک معین وقت کے لیے آرام

پہنچانے کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح جسم کو نقصان پہنچانے والے بعض فضلات اور رطوبات جسم کے اندر جنمئے نہیں پاتے ہیں۔

### تیسرا فصل: مریض اور مسافر کے روزہ کے حکم کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

جو بیمار ہو یا مسافر ہوا سے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔

(البقرة: ۱۸۵)

مریض کی دو قسمیں ہیں:

**پہلی قسم:** وہ مریض جس کی بیماری دائیٰ ہو اس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، مثال کے طور پر کینسر کی بیماری، اس صورت حال میں اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے جس میں اس کے روزہ پر قادر ہونے کی امید کی جاسکے، لیکن وہ ہر دن کے روزہ کے بد لے

ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یا تو ماہ رمضان (روزہ) کے دنوں کی تعداد کے مطابق فقراء و مساکین کو جمع کرے اور انہیں شام یا دوپہر کا کھانا کھلائے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ معمراً (سن رسیدہ) ہونے پر کیا کرتے تھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ روزہ کے دنوں کی تعداد میں فقراء و مساکین پر، ہر مسکین کے لیے ایک چوتھائی صاع نبوی کے حساب سے کھانا (غلہ) تقسیم کر دے، ایک چوتھائی صاع نبوی کا وزن اچھے قسم کے گیہوں سے آدھا کلو دس گرام (510gm) ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ کھانا (اناج) کے ساتھ سالن جیسے گوشت یا تیل وغیرہ بھی شامل کر دے۔

یہی حکم اس بوڑھے اور معمراً دمی کا بھی ہے جو روزہ رکھنے سے عاجزو قاصر ہو، لہذا وہ بھی ہر دن کے بد لے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔

**دوسری قسم:** جس کی بیماری عارضی اور وقتی طور پر ہواں کے ختم ہونے سے مایوسی ظاہرنہ ہوئی ہو، مثلاً بخار اور اس کے مشابہ دیگر بیماریاں، اس کی تین حالتیں ہیں:

**پھی حالت:** اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مشقت و پریشانی نہ ہو اور نہ ہی اس سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہو، ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔

**دوسری حالت:** اس کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت و پریشانی ہو لیکن اس سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس کے نفس پر مشقت و پریشانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو اپنانے سے اعراض پایا جاتا ہے۔

**تیسرا حالت:** اس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو ضرر و نقصان سے دوچار کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى التَّهْكِمَةِ﴾

اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ (ابقرۃ: ۱۹۵)

اور حدیث میں نبی ﷺ سے ثابت ہے:

”نہ تو ضرر جائز ہے اور نہ ضرر رسانی“۔

اس حدیث کی تخریج ابن ماجہ اور حاکم نے کی ہے، اور امام نووی نے کہا ہے کہ اس کے کئی طرق ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔

مریض پر روزہ کے نقصان دہ ہونے کا پتہ یا تو مریض کے خود اپنے نفس پر ضرر کے احساس یا کسی معتمد ڈاکٹر کی خبر کے ذریعہ لگایا جاسکتا ہے۔ بہر حال جب بھی اس قسم کا مریض روزہ توڑ دیتا ہے تو شفایاب ہونے کے بعد ان دونوں کی تعداد میں روزہ رکھے گا جن کا روزہ توڑ دیا تھا، اور اگر شفایاب ہونے سے پہلے مر گیا تو اس سے قضاصاقط (معاف) ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پر فرض یہ ہے کہ وہ دوسرے دونوں میں اسی تعداد میں روزہ رکھے اور اس نے اسے (یعنی دوسرے دونوں کو) نہیں پایا۔

### **مسافر کی دو قسمیں ہیں:**

**پہلی قسم:** وہ مسافر جس کا مقصد اپنے سفر کے ذریعہ روزہ توڑنے کے لیے حیلہ و بہانہ تلاش کرنا ہے، ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرائض کے لیے حیلہ و بہانہ اختیار کرنے سے وہ (فریضہ) ساقط نہیں ہوتا ہے۔

## دوسری قسم : وہ مسافر جس کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کی تین

حالتیں ہیں:

**پہلی حالت:** اس کے لیے روزہ رکھنا سخت مشقت و پریشانی کا باعث ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ نبی ﷺ "فتح مکہ کی لڑائی میں روزہ سے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ لوگوں پر روزہ شاق گذر رہا ہے اور وہ آپ کے فعل کا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ طلب کیا اور اسے پی لیا، اس حال میں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، (ید کیھ کر لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا) پھر آپ سے کہا گیا کہ: بعض لوگ (اب بھی) روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا: "وہ لوگ نافرمان ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں"۔ (صحیح مسلم)

**دوسری حالت:** اس پر روزہ شاق ہو لیکن سخت مشقت کا باعث نہ ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رخصت سے اعراض کر رہا ہے۔

**تیسراً حالت:** اس کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی مشقت و پریشانی نہ ہو، ایسی صورت میں روزہ رکھنے اور توڑنے میں سے جو چیز آسان تر ہو اس کو اختیار کرے (یعنی اگر روزہ رکھنا آسان تر ہو تو روزہ رکھے، اور اگر روزہ توڑنے میں زیادہ آسانی ہو تو روزہ توڑ دے) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾  
اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ (البقرة: ۱۸۵)

یہاں پر ارادہ محبت کے معنی میں ہے۔

اور اگر دونوں پہلو (سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا) برابر ہیں تو روزہ رکھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ نبی ﷺ کا فعل یہی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا:

”هم رمضان کے مہینے میں سخت گرمی کے موسم میں (سفر پر) نکلے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتا تھا، اور ہمارے درمیان رسول اللہ ﷺ اور عبد اللہ بن

رواحتہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی روزہ سے نہیں تھا۔

مسافر جس وقت اپنے شہر سے سفر پر نکلتا ہے اسی وقت سے لے کر پھر وہیں واپس لوٹنے تک سفر میں ہوتا ہے، اگرچہ جس شہر کی طرف اس نے سفر کیا ہے، وہاں وہ ایک مدت تک قیام کرتا ہے، ہر کیف جب تک اس کی یہ نیت ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے سفر کیا ہے اس کے پورا ہونے کے بعد وہ ہرگز وہاں قیام نہیں کرے گا تو وہ سفر ہی پر ہے، چنانچہ وہ سفر کی رخصتوں کو اختیار کرے گا، اگرچہ اس کے قیام کی مدت طویل ہو جائے، اس لیے کہ نبی ﷺ سے اس مدت کی تحدید تعین وارد نہیں ہے جس پر سفر ختم ہو جاتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ سفر باقی ہے اور اس کے احکام ثابت ہیں بیہاں تک کہ اس بات کی دلیل آجائے کہ سفر ختم ہو گیا اور اس کے احکام باقی نہیں رہے۔

وہ سفر جس کی رخصت ہے اس میں عارضی سفر جیسے حج و عمرہ، کسی رشتہ دار کی زیارت اور تجارت وغیرہ کا سفر، اور دائمی سفر جیسے کراچی کی گاڑیاں (ٹیکسی) چلانے والوں یا اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں چلانے والوں کے

سفر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ جب بھی اپنے شہر سے باہر نکلیں وہ مسافر ہیں، ان کے لیے وہ تمام چیزیں جائز ہیں جو دیگر مسافروں کے لیے جائز ہیں جیسے رمضان کے مہینہ میں روزہ نہ رکھنا، چار رکعت والی نمازوں کو قصر کر کے دور کعت پڑھنا، ضرورت کے وقت ظہر و عصر کے درمیان، اور مغرب وعشاء کے درمیان جمع کرنا۔ ان کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے اگر ان کے حق میں یہی آسان تر ہے، اور وہ موسم سرما میں اس کی قضا کریں گے، اس لیے کہ ان گاڑیاں چلانے والوں کا ایک شہر ہوتا ہے جس کی طرف وہ نسبت رکھتے ہیں، لہذا جب بھی وہ اپنے شہروں میں ہوں گے تو وہ مقیم سمجھے جائیں گے، اور ان کے لیے وہ چیزیں جائز ہوں گی جو دیگر مقیم لوگوں کے لیے ہیں، اور ان پر وہ چیزیں جاری ہوں گی جو دیگر مقیم لوگوں پر جاری ہوتی ہیں، اور جب بھی وہ سفر کریں گے تو وہ مسافر سمجھے جائیں گے ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو مسافروں کے لیے ہیں، اور ان پر وہ چیزیں جاری ہوں گی جو مسافروں پر جاری ہوتی ہیں۔

## چوتھی فصل:

مفسدات صیام یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں

روزہ فاسد کرنے والی سات چیزیں ہیں:

**① - جماع (ہمبستری):** جماع کا مطلب عضو خاص کو شرمگاہ میں

داخل کرنا ہے، جب بھی روزہ دار ہمبستری کرے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، پھر اگر اس نے رمضان کے دن میں جماع کیا ہے اور روزہ اس پر واجب تھا تو اس پر کفارہ مغلظہ واجب ہے؛ اس لیے کہ اس کا فعل بہت برا ہے، کفارہ مغلظہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہ ملے تو مسلسل دو ماہ کا روزہ رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے، اور اگر (رمضان میں) روزہ اس پر واجب نہیں ہے مثلاً مسافر جو روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر صرف قضا واجب ہے اس پر کفارہ نہیں ہے۔

**② - مباشرت، یا بوس و کنار، یا کسی اور چیز کے ذریعہ منی نکالنا، اگر بوس**

و کنار کرنے سے منی نہیں نکلتی ہے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے۔

**③ - کھانا اور پینا:** یعنی پیٹ کے اندر کھانا یا پانی کو پہچانا، خواہ وہ (کھانا یا پانی) منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے، اسی طرح کھائی جانے والی یا پی جانے والی چیز کی نوعیت کچھ بھی ہو (تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا)۔ نیز روزہ دار کے لیے اس طور پر بخور کا دھواں سونگھنا (دھونی لینا) جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے، اس لیے کہ دھواں کے اندر اجزاء (جرم یا جسم) ہوتے ہیں (جن کو اگر سونگھا جائے تو ناک کے راستے سے پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں)، البتہ خوشبو (عطر) کے سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

**④ - جو کھانے یا پینے کے ہم معنی (قائم مقام) ہو، مثال کے طور پر طاقت کا انجکشن جو کھانے اور پینے کا کام کرتا اور اس سے بے نیاز کر دیتا ہے، البتہ وہ انجکشن جو خوراک (غذا) کا کام نہیں کرتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ گر کے راستے سے لیا جائے یا پھول کے اندر لگایا جائے۔**

**⑤ - سینگی** کے ذریعہ خون نکالنا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے فصد اور اسی کے مثل دیگر چیزوں کے ذریعہ خون نکالنا بھی ہے جو انسان کے جسم

پرسینگی کے مانند اثر انداز ہوتی ہیں، البتہ ٹسٹ وغیرہ کے لیے تھوڑا سا خون کالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کے اثر سے جسم اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے جتنا کہ سینگی کے اثر سے ہوتا ہے۔

**⑥- قصدًا (جان بوجھ کر) قے کرنا، یعنی معدہ میں جو کچھ کھانا اور پانی ہے اسے باہر نکال دینا۔**

**⑦- حیض اور نفاس کا خون آنا۔**

مذکورہ بالامفسدات سے روزہ دار کا روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب اس کے اندر تین شرائط پائی جائیں:

**پھلی شرط:** اسے حکم اور وقت کا علم (واقفیت) حاصل ہو۔

**دوسری شرط:** اس کی یادداشت باقی ہو۔

**تیسرا شرط:** وہ خود مختار ہو۔

لہذا اگر اس نے یہ گمان کرتے ہوئے سینگی لگوالی کہ سینگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اسے حکم کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَلُتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدُ  
قُلُوبُكُمْ﴾

تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ  
گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ (الازاب: ۵)  
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَلْنَا﴾

اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ کپڑنا۔  
(البقرة: ۲۸۶)

اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا: میں نے اسے قبول فرمایا۔  
اور صحیحین میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے  
دور سیاں ایک کالی اور دوسرا سفید اپنے تکیہ کے نیچر کھلیں اور کھانا شروع  
کر دیا اور ان دونوں رسیوں کی طرف دیکھتے رہے، جب ان دونوں میں  
سے ایک دوسرے سے ظاہر و باہر ہو گئی، تو کھانے سے رک گئے، یہ گمان  
کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

**﴿هَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾**

یہاں تک کہ سفید دھاگے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ (البقرة: ۱۸۷)

کا یہی معنی و مفہوم ہے۔

پھر نبی ﷺ کو اس کی اطلاع دی گئی، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا:

((اس سے مراد دن (صبح) کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے))۔

اور ان کو روزہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔

اسی طرح اگر یہ گمان کرتے ہوئے کھالے کہ فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، یا

یہ کہ سورج غروب ہو گیا ہے، پھر اس کے گمان کے خلاف چیز ظاہر ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اسے وقت کا علم نہیں ہے، اور صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ:

نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک ابرا لود دن میں ہم نے افطار کر لیا،

پھر سورج طلوع (ظاہر) ہو گیا۔

(اور نبی ﷺ نے لوگوں کو قضا کا حکم نہیں دیا)

اگر قضا کرنا واجب ہوتا تو نبی ﷺ اسے ضرور بیان کرتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین کو مکمل کر دیا اور اگر آپ اسے بیان کیے ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے ضرور نقل کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جب صحابہ کرام نے اسے نقل نہیں کیا تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ واجب نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے نقل کرنے کے اسباب مکمل طور پر پائے جاتے ہیں، لہذا اس سے غفلت برنا ممکن نہیں ہے۔

نیز اگر وہ بھول جائے کہ وہ روزہ کی حالت میں ہے اور کھاپی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:  
جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھاپی لیا تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اسی طرح اگر روزہ دار کو کھانے پر مجبور کیا جائے، یا کلی کرتے وقت پانی اس کے پیٹ میں چلا جائے، یا وہ اپنی آنکھ میں دوا کا قطرہ پیکائے اور قطرہ

اس کے پیٹ میں پہنچ جائے، یا خواب میں اس سے منی کا نزول ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ صحیح ہے؛ اس لیے یہ چیزیں بغیر اس کے اختیار و ارادہ کے (غیر اختیاری طور پر) وقوع پذیر ہوئی ہیں۔

اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ روزہ دار اور غیر روزہ دار ہر ایک کے لیے کسی بھی وقت مسواک کرنا سنت ہے چاہے وہ دن کے ابتدائی حصہ میں ہو یا اس کے آخری حصہ میں۔ نیز روزہ دار کے لیے ایسے وسائل کا اختیار کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنے آپ سے گرمی اور پیاس کی شدت کو کم کر سکے، مثلاً پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا وغیرہ، اس لیے کہ: ”نبی ﷺ روزہ کی حالت میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے“۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روزہ کی حالت میں ایک کپڑا ترکر کے اسے اپنے اوپر ڈال لیا۔ درحقیقت یہ اس آسانی کے مظاہر ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ کی نعمت اور اس کی آسانی پر ہر قسم کی تعریف اور شکر و احسان اسی کے لیے ہے۔

### پانچویں فصل: تراویح کے بیان میں

ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنے کو تراویح کہتے ہیں، اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر (صادق) تک ہے، نبی ﷺ نے ماہ رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

”جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کے حصول کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔“  
اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ: ”نبی ﷺ نے ایک رات مسجد میں قیام اللیل کیا تو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اگلی رات آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں کی کثرت ہو گئی، پھر تیری یا چوتھی رات بھی لوگ جمع ہوئے لیکن آپ نماز کے لیے ان کی طرف نہیں نکلے، جب آپ نے صبح کی تو ارشاد فرمایا:

”(آج رات) جو کچھ تم نے کیا ہے میں نے اسے دیکھا لیکن تمہاری طرف نکلنے سے میرے لیے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ

کہیں وہ (تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے۔

یہ واقعہ رمضان کے مہینہ میں پیش آیا تھا۔

سنن کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گیارہ رکعتوں پر اکتفا کیا جائے، اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے؛ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رمضان میں نبی ﷺ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا: آپ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری و مسلم)

اور موٹامیں محمد بن یوسف سے مردی ہے۔ اور وہ ایک ثقہ اور ثابت راوی ہیں۔ وہ سابق بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ صحابی ہیں۔ ک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں۔

اگر کوئی تراویح کی نماز گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ اس لیے کہ نبی ﷺ سے قیام اللیل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”وہ دو درکعت پڑھی جائے، اور جب تم میں سے کسی کو صحیح ہونے کا خوف ہو تو وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے وہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنادے گی۔“ (صحیح بخاری و مسلم)

لیکن جو تعداد سنت کے اندر وارد ہے سنجدگی اور لمبی قراءت کے ساتھ جو لوگوں کے لیے باعث مشقت نہ ہو۔ اسی کی پابندی کرنا افضل اور کامل ترین ہے۔

البته آج کل بعض لوگ جوانہ بھائی جلد بازی سے کام لیتے ہیں وہ خلاف شرع ہے، اور اگر اس سے کسی واجب یا رکن کے اندر خلل پڑتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔

بہت سے ائمہ مساجد صلاة تراویح میں سنجدگی (سکون و وقار) اختیار نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ امام صرف اپنے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اپنے لیے اور اپنے علاوہ (مقتدیوں) کے لیے بھی نماز پڑھتا ہے، لہذا اس کی حیثیت ولی (سرسپرست) کی طرح ہے جس پر واجب ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو سب سے بہتر اور مناسب ترین ہو، اہل علم نے

ذکر کیا ہے کہ امام کے لیے اس قدر جلد بازی کرنا مکروہ ہے جو مقتدیوں کے لیے واجبات کی ادائیگی سے منع ہو۔

لوگوں کے لیے مناسب اور لائق وزیبائی ہے کہ وہ صلاۃ تراویح کی ادائیگی کے حریص بنیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے میں اسے ضائع نہ کر دیں، کیونکہ جس شخص نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو گیا تو اس کے لیے پوری رات قیام اللیل کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اگرچہ وہ اس کے بعد اپنے بستر پر ہی کیوں نہ سو گیا ہو۔

اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو صلاۃ تراویح میں عورتوں کے حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ شرم و حیا کے ساتھ آئیں، زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اور خوشبوؤں سے معطر نہ ہوں۔

### چھٹی فصل: زکوٰۃ اور اس کے فوائد کے بیان میں

زکوٰۃ اسلام کے فرائض کے میں سے ایک عظیم فرایضہ اور شہزاد میں اور نماز کے بعد اس کے اركان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس کے واجب ہونے پر اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے رسول ﷺ کی سنت اور مسلمانوں

کا اجماع دلالت کرتا ہے۔ جس نے اس کے وجوہ کا انکار کیا وہ اسلام سے مرتد اور کافر ہے، اس سے توبہ کروایا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص اس کی ادائیگی میں بخیلی کرتا ہے یا اس میں سے کچھ کمی کرتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَنَّ لَهُمْ بَلٌ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيِطُوقُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَلَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾

جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوں کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، عنقریب قیامت والے دن یا اپنی کنجوں کی چیز کے طوق ل ڈالے جائیں گے، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ (آل عمران: ۱۸۰)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس (مال) کو اس کے لیے ایک زہر میلے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا جس کی آنکھ کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، جو اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں (جبڑوں کو) پکڑ کر کہے گا: میں تیر امال ہوں، میں تیر اخزانہ ہوں۔“

(شجاع: نر سانپ کو کہتے ہیں، اور اقرع: اس سانپ کو کہتے جس کے زہر کی کثرت کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر گئے ہوں)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفِقُّونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُسْخَمُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَىٰ بِهَا جِهَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَلَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں

کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنانے کر رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ (التوبۃ: ۳۲-۳۵)

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

”جو بھی سونا یا چاندی والا شخص اپنے اس مال کا حق (زکوٰۃ) ادا نہیں کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا، جب جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گیں دوبارہ اسی طرح کامل کیا جائے گا، یہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی، (یہ حالت اس وقت تک رہے گی) یہاں تک بندوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے۔“

زکوٰۃ کے کچھ دینی، اخلاقی اور معاشرتی فائدے ہیں، جن میں سے درج

ذیل کا ہم مذکور ہے ہیں:

**زکوٰۃ کے دینی فائدے:**

① - یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی ہے جس پر دنیا و آخرت میں بندہ کی نیک بختی اور کامیابی و کامرانی کا دار و مدار ہے۔

② - یہ بندہ کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کی دیگر طاعتوں (نیکیوں) کے انجام دینے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

③ - زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت بڑا جزو و ثواب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرِيبُ الصَّدَقَاتِ﴾

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ (البقرة: ۲۷۶)

اور فرمایا:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّنْ رِبَا لَيُرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةً تُرْدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ صدقہ وزکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنادو چند کرنے والے۔ (الروم: ۳۹)

اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص پاکیزہ (حلال) کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے - اور اللہ تعالیٰ صرف پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے - تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کی اسی طرح پرورش (افزاش) کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پچھیرے (گھوٹے کے بچے) کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ (صدقہ کیا ہوا مال) پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری و مسلم)

④ - اللہ تعالیٰ اس کے سبب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ

نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”صدقہ گناہ کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بمحادیتی ہے۔“

یہاں پر صدقہ سے (واجبی) زکوٰۃ اور عام (نفعی) صدقات و خیرات سب  
مراد ہیں۔

### زکوٰۃ کے اخلاقی فائدے:

**①** - یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو خوبی و فیاض اور ارباب جود و کرم کے زمرہ  
سے ملا دیتی ہے۔

**②** - زکوٰۃ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے نقیر و محتاج بھائیوں پر  
مہربانی و ہمدردی کرنے کی خوبی سے آرستہ ہو جاتے ہیں، اور مہربانی کرنے  
والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔

**③** - اس بات کا مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کو مالی اور جسمانی نفع  
پہنچانے سے شرح صدر اور دل کا سرور و انبساط حاصل ہوتا ہے، اور اس  
کے سبب انسان اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانے کے بعد محبوب اور معزز و مکرم  
ہو جاتا ہے۔

**④** - زکوٰۃ کی ادائیگی سے صاحب زکوٰۃ کا اخلاق بخیلی اور کنجوی سے  
پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزَّكُّهُمْ بِهَا﴾

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے بیجیے، جس کے ذریعہ سے آپ  
ان کو پاک صاف کر دیں۔ (التوبۃ: ۱۰۳)

### زکوٰۃ کے معاثر تی فائدے:

**①** - زکوٰۃ سے غریبوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے جن کی بیشتر

ممالک میں اکثریت ہے۔

**②** - زکوٰۃ کے اندر مسلمانوں کی تقویت اور ان کے شان کی بلندی ہے،

اسی لیے زکوٰۃ کا ایک مصرف جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، جسے ہم ان شاء اللہ  
عنقریب ذکر کریں گے۔

**③** - فقیر اور محتاج و بدحال لوگوں کے دلوں میں جو کینہ و کپٹ اور عداوت

و دشمنی ہوتی ہے زکوٰۃ کے ذریعہ اس کا خاتمه ہو جاتا ہے، کیونکہ جب فقیر و

محتاج لوگ مالداروں کو مال و دولت سے محظوظ ہوتے دیکھتے ہیں اور تھوڑا ایسا

زیادہ کچھ بھی اس سے انہیں فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو با اوقات ان کے دلوں

میں مالداروں کے خلاف کینہ اور عداوت جنم لیتی ہے کہ انہوں نے ان کے

حقوق کی رعایت نہیں کی اور ان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کیا، لیکن اگر مالدار لوگ اپنے اموال میں سے کچھ حصہ ہر سال ان پر خرچ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے مابین محبت والفت پیدا ہو جاتی ہے۔

④- اس سے مال کے اندر نہ مو بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی ﷺ سے وارد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”صدقة سے مال میں کی واقع نہیں ہوتی ہے۔“

یعنی اگرچہ صدقہ سے مال کے اندر تعداد کے اعتبار سے تو کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اس کی برکت اور مستقبل میں اس میں زیادتی اور اضافہ ہونے میں ہرگز کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔

⑤- زکوٰۃ سے مال کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب مال کا کچھ حصہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، بخلاف اس کے کہ اگر وہ مالداروں کے بیچ ہی

گردش کرتا رہے، فقیر و محتاج لوگوں کو اس سے کچھ بھی نہ ملے۔

زکوٰۃ کے یہ تمام فوائد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فرد و معاشرہ کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ ایک ضروری چیز ہے، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو علم و حکمت والی ہے۔

زکوٰۃ کچھ مخصوص مالوں کے اندر واجب ہے، انہی میں سے: سونا اور چاندی ہے بشرطیکہ وہ نصاب تک پہنچ جائیں، سونے کا نصاب گیارہ سعودی جنیہ (سونے کا سکہ) اور ایک جنیہ کا تین ساتواں (۳/۷) حصہ ہے۔ اور چاندی کا نصاب چاندی کا چھپن (۵۶) سعودی ریال یا اس کے مساوی بینک نوٹس (کرنیساں) ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ کی واجب مقدار اڑھائی فیصد ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ سونا اور چاندی سکوں یا بغیر ڈھلنے ہوئے ڈھیلے یا زیور کی شکل میں ہوں۔ بنابریں عورت کے سونے اور چاندی کے زیور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، اگرچہ وہ اس کو پہنچنی یا عاریت (منگنی) دیتی ہو۔ اس لیے کہ سونا اور چاندی کے زکوٰۃ کو واجب کرنے والی دلیلیں بغیر کسی تفصیل کے عام

ہیں، اور اس لیے بھی کہ کچھ خاص حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں جو زیور میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں اگرچہ اسے پہنا جاتا ہو، مثال کے طور پر عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک خاتون نبی ﷺ کے پاس آئیں اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کنگن تھے، تو آپ نے فرمایا:

”کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“ انہوں نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا:  
 ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں کے بدالے آگ کے دو کنگن پہنانے؟“؟

چنانچہ اس عورت نے وہ دونوں کنگن نکال کر پھیک دیے اور کہا: یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ صاحب بلوغ المرام نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ (یعنی ابو داود، نسائی، ترمذی) نے روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد قوی ہے۔

اور اس لیے بھی کہ اس میں احتیاط کا پہلو زیادہ ہے، اور جس کے اندر احتیاط کا پہلو زیادہ ہو وہی اولی و بہتر ہے۔

جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے انہی میں سے تجارت کا سامان بھی ہے، اور اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جسے تجارت کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے زمین و جائداد، گاڑیاں، مولیشی، کپڑے اور اس کے علاوہ مال کے دیگر اصناف و اقسام، اس کے اندر زکوٰۃ کی وجہ مقدار اٹھائی فیصد ہے، سال کے اختتام پر اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اس کا اٹھائی فیصد زکوٰۃ نکالی جائے گی، خواہ اس کی مالیت، قیمت خرید سے کم، یا اس سے زیادہ، یا اس کے مساوی ہو۔ البتہ جس چیز کو اس نے اپنی حاجت کے لیے، یا کرایہ پر دینے کے لیے رکھا ہے جیسے زمینی جائداد، گاڑیاں، ساز و سامان وغیرہ تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔“

لیکن سال پورا ہونے پر کرایہ سے حاصل ہونے والی اجرت میں زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سابقہ دلیلوں کی بنیاد پر سونے اور چاندی کے زیور میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔

### ساتویں فصل: اہل زکوٰۃ کے بیان میں

اہل زکوٰۃ سے مراد وہ جہات (مصارف) ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کا بیان از خود فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ فِي رِبَضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾

صدقة (زکوٰۃ) صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہروں مسافروں کے لیے، فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ (اتوبہ: ۶۰)

اس طرح زکوٰۃ کے آٹھ مصارف ہیں:

**اول:** فقراء، یہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کفایت کی روزی میں سے صرف

تحوڑی چیز یعنی نصف سے بھی کم میسر ہوتی ہے، اگر انسان کے پاس اپنے نفس اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے آدھے سال کا بھی انتظام نہیں ہے تو وہ فقیر ہے اور اسے اتنی زکوٰۃ دی جائے گی جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو۔

**دوہم:** مساکین، یہ لوگ ہیں جنہیں اپنی کفایت کی آدمی یا اس سے زیادہ روزی میسر ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس پورے سال کی روزی کا بندوبست نہیں ہوتا، چنانچہ ان کے سال بھر کا خرچ زکوٰۃ کی رقم سے پورا کر دیا جائے گا۔ اگر آدمی کے پاس نقد نہ ہوں، لیکن اس کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ جیسے صنعت و حرف، یا تجواہ یا کوئی اور کام ہو جس سے وہ اپنی کفایت بھر روزی کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔

اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”مالدار کے لیے اور کمانے کی طاقت رکھنے والے تو ان شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں کوئی حصہ (حق) نہیں ہے۔“

**تیسرا:** کارکنان زکوٰۃ، یہ لوگ ہیں جنہیں ملک کا عام حکمران

زکوٰۃ وصول کرنے، اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کرنے اور اس کی حفاظت و نگہداشت کرنے وغیرہ کی ذمہ داری سونپتا ہے، ایسے لوگوں کو ان کے کام (محنت) کے مطابق زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا اگرچہ وہ لوگ مالدار ہیں کیوں نہ ہوں۔

**چوتھا :** وہ لوگ جن کے دلوں کی تالیف (دلبجی) مقصود ہو، اس سے مراد وہ سردارانِ قبائل ہیں جن کے ایمان میں مضبوطی و پختگی نہ ہو، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تاکہ ان کے ایمان پختہ و مضبوط ہو جائیں اور وہ اسلام کے داعی اور نیک قد وہ و نمونہ بن جائیں۔ اگر انسان کا اسلام کمزور ہو لیکن وہ قابل اطاعت سرداروں (بااثر و رسوخ لوگوں) میں سے نہ ہو، بلکہ عام لوگوں میں سے ہو تو کیا اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ نہیں؟..

بعض علماء کا خیال ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا؛ اس لیے کہ دین کی مصلحت جسم کی مصلحت سے عظیم تر ہے، اور جب اسے فقیر ہونے کی صورت میں اس کے جسم کو غذا و خواراک بہم پہنچانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی

ہے، تو اس کے دل کو ایمان کی غذا بھم پہنچانا زیادہ نفع بخش اور بڑھ کر ہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی؛ اس لیے کہ اس کے ایمان کی تقویت سے حاصل ہونے والی مصلحت انفرادی اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔

**پانچواں:** گردن آزاد کرنا، اس مصرف میں زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کر آزاد کرنا، مکاتب غلام (جس نے اپنے مالک سے آزادی کا معاهده طے کر رکھا ہے) کی مدد کرنا اور مسلمان قیدیوں کو چھڑانا داخل ہے۔

**چھٹا:** قرض دار، اس سے مراد وہ قرض دار لوگ ہیں جن کے پاس اپنے قرض کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مدتے اتنی رقم دی جائے گی جس سے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکیں خواہ وہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، اگرچہ وہ روزی کے اعتبار سے مالدار ہی کیوں نہ ہوں، اگر مان لیا جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ آمد نہیں ہے جو اس کی اور اس کے اہل و عیال کی روزی کے لیے کافی ہے، مگر اس کے اوپر اتنا قرض ہے جس کی ادائیگی کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اسے اتنی زکوٰۃ دی جائے گی

جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے۔

آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فقیر مقرض شخص سے قرض کو ساقط کر دے اور یہ نیت کرے کہ وہی اس کے مال کا زکوٰۃ ہے۔

علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر قرض دار شخص آدمی کا باپ یا بیٹا ہو، تو کیا اسے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔

اگر صاحب زکوٰۃ جانتا ہے کہ قرض دار شخص اپنے قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صاحب حق کے پاس جائے اور اس کے حق کی ادائیگی کر دے اگرچہ قرض دار کو اس کا علم نہ ہو۔

**ساتواں:** فی سبیل اللہ (اللہ کے راستے میں)، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، چنانچہ مجاہدین کو زکوٰۃ کی اتنی رقم دی جائے گی جو ان کے جہاد کے لیے کافی ہو، اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جنکی ساز و سامان خریدے جائیں گے۔

اللہ کے راستے میں شرعی علم بھی داخل ہے، چنانچہ شرعی علم حاصل کرنے

والے طلباء کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ فراہم کر سکے، الایہ کہ خود اس کے پاس مال ہو جس سے وہ تحصیل علم کر سکے۔

**آٹھوائیں:** این سبیل (مسافر)، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کا سفر منقطع ہو گیا ہو یعنی دورانِ سفر اس کا زادراہ ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اسے زکوٰۃ کے مال سے اتنی رقم دی جائے گی جس سے وہ اپنے شہر (وطن) تک پہنچ سکے۔

یہی لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو علم و حکمت سے صادر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔

زکوٰۃ کی رقم کو اس کے مذکورہ مستحقین کے علاوہ کسی اور مصرف مثلاً مساجد کی تعمیر اور راستے کی اصلاح وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین کو حصر کے طور پر ذکر کیا ہے، اور حصر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ غیر محصور سے حکم کی نفی کرتا ہے۔

زکوٰۃ کے مذکورہ بالامصارف میں جب ہم غور فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بذات خود زکوٰۃ کے ضرورتمند ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس سے ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب قرار دیے جانے میں کس قدر حکمت ہے، اس کی حکمت ایک مکمل صالح معاشرہ کی تعمیر ہے جو بقدر امکان خود کفیل ہو، اور یہ کہ اسلام نے مال و دولت کو اور مال و دولت پر بنی ممکن مصلحتوں کو نظر انداز نہیں کیا ہے، اور نہ ہی لاچھی اور بخیل نفوس کے لیے ان کی کنجوسی اور ہوا پستی کی آزادی چھوڑی ہے، بلکہ اسلام خیر و بھلائی کا سب سے بڑا رہنماء اور قوموں کی اصلاح کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

### آٹھویں فصل: زکوٰۃ الفطر کے بیان میں

زکوٰۃ فطر ایک فریضہ ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کے اختتام پر فرض قرار دیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے

تمام مسلمانوں پر رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا ہے۔

(صحیح بخاری و مسلم)

زکوٰۃ فطر لوگوں کی عام خوراک کی انواع و اصناف میں سے ایک صاع کی مقدار ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”هم نبی ﷺ کے زمانہ میں عید الغطر کے دن اشیائے خوراک میں سے ایک صاع نکالتے تھے، اور (اس وقت) ہمارا خوراک جو، کشمش، پنیر اور کھجور تھا،“ (صحیح بخاری)

الہزارو پچ پیسے (لندی)، بستر پھونے، لباس، چوپا یوں کے خوراک، سازو سامان وغیرہ سے زکوٰۃ فطر نکلنا کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نبی ﷺ کے حکم کے خلاف ہے، اور نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود (ناقابل قبول) ہے۔“

صاع کی مقدار اچھے قسم کے گندم سے دو کلو چالیس گرام (2.040kg) ہے، یہی صاع نبوی کی مقدار ہے جس کے ذریعہ

نبی ﷺ نے فطرہ (فطرانہ) کی مقدار مقرر کی ہے۔ صدقہ، فطر نمازِ عید سے پہلے نکالنا واجب ہے، افضل یہ ہے کہ اسے عید کے دن نمازِ عید سے پہلے نکالا جائے، عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی نکالنا کافی (جاائز) ہے، البتہ نمازِ عید کے بعد نکالنا کفایت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ:

”نبی ﷺ نے روزہ دار کو لغو و رفت سے پاک کرنے اور مسکین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ فطر فرض قرار دیا ہے، چنانچہ جس نے اس کی ادائیگی نمازِ عید سے پہلے کر دی تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نمازِ عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

لیکن اگر اسے عید کا پتہ نماز کے بعد چلے، یا وہ اس کے نکالنے کے وقت شہر سے باہر صحراء (بیباں) میں یا ایسے شہر میں تھا جہاں اس کا کوئی مستحق نہیں، تو اسے نماز کے بعد نکالنا کفایت کرے گا اگر وہ نکالنے پر قادر ہے۔ واللہ اعلم و صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔

### چند منتخب فتاوے

**سوال:** ماہ رمضان میں صرف روزہ رکھنے اور نماز نہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

**جواب:** جو شخص صرف روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ تو وہ مقبول ہو گا اور نہ ہی اس سے اس کا ذمہ بری ہو گا۔ بلکہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ روزہ کام طالب نہیں ہے؛ اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہودی اور نصرانی (عیسائی) کی طرح ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہودی یا نصرانی اپنے دین پر برقرار رہتے ہوئے روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ مقبول ہو گا؟ بالکل نہیں۔ لہذا ایسے شخص سے ہم کہیں گے کہ تو اللہ سے توبہ کر کے نماز پڑھ اور روزہ رکھ، اور جو اللہ سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

**سوال:** کیا رمضان میں قیام اللیل (تراویح) کی کوئی معین تعداد ہے یا نہیں؟

**جواب:** واجبی طور پر رمضان کے قیام اللیل (تراویح) کی معین تعداد نہیں ہے، لہذا اگر انسان پوری رات قیام اللیل کرے تو کوئی حرج نہیں، اور

اگر بھیں رکعت یا پچاس رکعت قیام اللیل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن قیام اللیل کی افضل تعداد وہی ہے جو نبی ﷺ پڑھتے تھے، اور وہ گیارہ رکعت یا تیرہ رکعت ہے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ: نبی ﷺ رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: آپ رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ (صحیح بخاری 1147، 3569، صحیح مسلم 1670)

لیکن ان رکعتوں کو مشروع طریقہ پر پڑھنا واجب ہے، اور ان کے اندر قراءت، رکوع، سجده، رکوع کے بعد قیام اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کو لمبا کرنا مناسب ہے، ایسا نہ کرے جس طرح کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں کہ مقتدیوں کو جو نماز کے اندر کرنا چاہیے اسے کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جبکہ امامت ایک ولایت (ذمہ دارانہ منصب) ہے، اور والی کے لیے لازم ہے کہ وہی کام کرے جو سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے بہترین ہو۔

**سوال:** اگر لوگوں کو ماہ رمضان کے داخل (شروع) ہونے کا اس وقت

پتہ چلے جب دن کا ایک حصہ گذر جائے، تو کیا ان پر دن کے باقی حصہ میں کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے؟ یا وہ اس دن کی قضا کریں گے؟

جواب: اگر لوگوں کو ماہ رمضان کے داخل (شروع) ہونے کا پتہ دن

کے دوران چلے تو ان پر (اسی وقت سے) کھانے پینے سے رک جانا واجب و ضروری ہے؛ اس لیے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دن ماہ رمضان کا ہے، سواں میں کھانے پینے سے رک جانا واجب و ضروری ہو گیا۔ لیکن کیا ان لوگوں کے لیے اس دن کے روزہ کی قضا کرنا لازم و ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔

جمہور علماء کی رائے ہے کہ ان پر قضا لازمی ہے؛ کیونکہ انہوں نے دن کے ابتدائی حصہ سے روزہ کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ دن کا ایک حصہ بغیر نیت کے گذر آہے، اور نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہو گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔“

( صحیح بخاری حدیث نمبر: 1، صحیح مسلم حدیث نمبر: 4962)

جبکہ بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان پر قضا لازم نہیں ہے؛  
اس لیے کہ وہ لوگ جہالت اور ناواقفیت کی بنابر بغیر روزہ کی نیت کے تھے،  
اور جاہل شخص اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر مendum ہے۔  
لیکن از روئے احتیاط اور ذمہ داری سے بری ہونے کے پہلو سے قضا  
کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

”جس چیز میں تمہیں شک ہوا سے جھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں تمہیں  
کوئی شک و شبہ نہ ہو۔“ (اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب البيوع، باب  
تفسیر المشبهات میں بصینۃ تعلیق روایت کیا ہے)۔

اور یہ محض ایک دن کا معاملہ جو کہ آسان چیز ہے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، مزید اس کے اندر نفس کی راحت اور دل کاطمہنان ہے۔

سوال: بعض میڈیکل اسٹورز میں ایک قسم کا اسپرے متا جسے بعض دمہ کے  
مریض استعمال کرتے ہیں، کیا رمضان کے دن میں روزہ دار کے لیے اس کا  
استعمال جائز ہے؟

جواب: روزہ دار کے لیے (Inhaler) کا استعمال جائز ہے چاہے وہ

رمضان کا روزہ ہو یا غیرِ رمضان میں ہو،.. اس لیے کہ یا اسپرے معدہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ ہوا کی نالیوں میں جاتا ہے جس سے وہ پھول جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان معمول کے مطابق سانس لینے لگتا ہے، پس وہ کھانے اور پینے کے ہم معنی (قائم مقام) نہیں ہے اور نہ ہی وہ معدہ تک پہنچنے والا کھانا اور پینا ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ اصل روزہ کی صحت و درستگی ہے یہاں تک کہ کتاب یا سنت یا اجماع یا صحیح قیاس سے کوئی دلیل آجائے جو اس کے خلاف ہونے پر دلالت کرے۔

**سوال:** رمضان کے دن میں روزہ دار کے لیے ٹوٹھ پیسٹ (دانتوں کا منجن) استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟

**جواب:** رمضان میں اور غیرِ رمضان میں روزہ دار کے لیے ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کے معدہ تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن نہ استعمال کرنا بہتر ہے؛ اس لیے کہ اس کے اندر قوی تاثیر ہوتی ہے جو غیر شعوری طور پر انسان کے معدہ تک پہنچ سکتی۔ اسی لیے نبی ﷺ

نے لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کروالا یہ کہ تم روزہ سے ہو۔“

(ترمذی حدیث نمبر: 788، نسائی حدیث نمبر: 87)

لہذا بہتر یہ ہے کہ روزہ دار پیسٹ استعمال نہ کرے، اور معاملہ کے اندر وسعت ہے، اگر اسے افطاری کرنے تک موخر کر دیتا ہے تو سمجھیے اس نے جس چیز سے روزہ فاسد ہونے کا خدشہ تھا اس سے احتراز کر لیا۔

### ضمیمه

**زکوٰۃ کیا ہے؟** مخصوص اوصاف کے حامل مخصوص مال کے اندر ایک مخصوص وقت پر مخصوص لوگوں کے لیے ایک واجبی حق ہے۔

**زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں؟** زکوٰۃ کے واجب ہونے کی پانچ شرطیں ہیں:

- ① - صاحب زکوٰۃ مسلمان ہو۔ ② - وہ آزاد ہو غلام نہ ہو۔
- ③ - زکوٰۃ کا مال مقررہ نصاب کو پہنچ جائے۔ ④ - زکوٰۃ کا مال صاحب زکوٰۃ کی ملکیت میں ہو۔ ⑤ - زکوٰۃ کے مال پر ایک سال کا عرصہ گذر گیا ہو (زمینی پیداوار یعنی غله جات اور بچلوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے)۔

**کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے؟** جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے ان کی چار قسمیں ہیں:

**پہلی قسم:** سونا، چاندی اور موجودہ دور میں اس کے قائم مقام مختلف اقسام کے بینک نوٹس (کرنیساں)۔

**دوسری قسم:** چرنے والے مویشی (چوپائے)۔

**تیسرا قسم:** زین پیداوار (پھل اور غلہ جات)۔

**چوتھی قسم:** سامان تجارت۔

جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے ان کا نصاب اور مقدار زکوٰۃ

**پھلی قسم:** سونا، چاندی اور اس کے قائم مقام بینک نوٹس  
( مختلف قسم کی کرنیوں ) کی زکوٰۃ:

**۱ - سونا:** احادیث رسول ﷺ کی رو سے سونے کا نصاب ۲۰ دینار  
(مشقال) ہے، جس کا وزن موجودہ زمانہ میں (۸۵) گرام ہے، کیونکہ ایک  
دینار کا وزن ۴.۲۵ گرام ہوتا ہے، اس طرح ۲۰ دینار کا وزن  
 $(20 \times 4.25) = 85$  گرام ہو گا۔ لہذا اگر کسی کے پاس 85 گرام یا اس  
سے زائد سونا ہے اور اس پر ایک سال گذر چکا ہے تو اس میں اڑھائی فیصد  
زکوٰۃ واجب ہو گی۔

مثال کے طور پر اگر سونے کا دام بازار میں 800 روپے فی گرام ہے، تو  
85 گرام سونے کے دام  $(800 \times 85) = 68,000$  روپے ہوں گے،  
اس پر اڑھائی فیصد  $(2.5\% \text{ of } 68,000)$  یعنی 1700 روپے زکوٰۃ ہو گی۔

**② - چاندی:** حدیث کے مطابق چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، موجودہ دور میں رائج پیمانہ کے اعتبار سے ایک درہم کا وزن 2.975 گرام ہوتا ہے، اس حساب سے 200 درہم کا وزن 595 گرام چاندی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 گرام یا اس سے زائد چاندی ہے اور اس پر سال گذر چکا ہے تو اس میں اڑھائی فیصد (چالیسوں حصہ) زکوٰۃ واجب ہے، مثلاً اگر چاندی کا دام بازار میں 9000 روپے فی کلو ہے، تو 595 گرام چاندی کے  $(9 \times 595) = 5,355$  روپے ہوئے، اس پر اڑھائی فیصد 133.875 روپے زکوٰۃ ہوگی۔

**③ - کاغذی کرنیاں:** موجودہ دور میں سونے اور چاندی کے سکوں (دینار اور درہم) کی جگہ پر کرنی نوٹس کے ذریعہ لین دین ہوتا ہے، لہذا کرنی نوٹس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے جس طرح کہ اس کے اصل میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا نصاب بھی سونے اور چاندی کے نصاب کی طرح ہے، یعنی اگر کسی کے پاس اتنے کرنی نوٹس ہیں جن کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو سال گذرنے کے بعد اس میں اڑھائی فیصد زکوٰۃ واجب

ہے۔ واضح رہے کہ گرچہ سونے اور چاندی کے دام میں کافی ثقاوت ہے، لیکن فقراء و مسَاکین کی ضرورتوں کی رعایت کرتے ہوئے کرنسیوں کی زکوٰۃ چاندی کے نصاب سے دینی چاہیے۔

**دوسری قسم:** زمین پیداوار یعنی غلہ جات اور بچلوں کی زکوٰۃ:  
بچلوں اور غلہ جات کا نصاب پانچ وقت ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةً أَوْ سُقِّ صَدَقَةً»  
پانچ وقت سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ (صحیح بخاری و مسلم)  
ایک وقت ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، اس طرح پانچ وقت تین سو صاع ہوئے۔ (صاع سے مراد صاع نبوی ہے جو چار مدد کا ہوتا ہے) صاع ایک ناپنے کا پیانہ ہے جس کا وزن موجودہ پیانے کے اعتبار سے اڑھائی (2.500) کلوگرام ہوتا ہے۔ اس طرح تین سو صاع کی مقدار ساڑھ سات سو (750kg) کلوگرام ہوئی۔

زمین سے پیدا ہونے والے غلہ جات اور بچلوں کی دو حالتیں ہیں:

اگر اس کی پیداوار بغیر محنت و مشقت کے مثلاً بارش اور چشمیں کے پانی سے سینچائی کر کے ہوئی ہے تو اس میں دسوال حصہ (دس فیصد) زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس کی پیداوار محنت و مشقت مثلاً مشین اور رہٹ وغیرہ سے سینچائی کے ذریعہ ہوئی ہے تو اس میں بیسوال حصہ (پانچ فیصد) زکوٰۃ واجب ہے۔

مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاں ۱۵۰۰/کلوگرام گیہوں کی پیداوار ہوئی ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اگر اس کی پیداوار بغیر محنت و مشقت کے مثلاً بارش اور چشمیں وغیرہ کے پانی سے ہوئی ہے، تو اس میں دسوال حصہ (10%) یعنی (150 کلوگرام) زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس کی پیداوار محنت و مشقت کے ذریعہ مثلاً مشین اور دیگر آلات سے سینچ کر ہوئی ہے تو اس میں بیسوال حصہ (5%) یعنی (75 کلوگرام) زکوٰۃ واجب ہے۔

**تیسرا قسم: مویشی کا نصاب:** اس سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں:

① - یہ جانور پورے سال یا سال کا بیشتر حصہ باہر میدان وغیرہ میں چھوٹ کر چرنے والے ہوں۔

② - ان کی ملکیت پر ایک سال کا عرصہ گذر جائے۔

③ - وہ نصاب کو پہنچ جائیں: یعنی وہ کم سے کم پانچ اونٹ، چالیس بھیڑ بکریاں، اور تمیں گائیں ہوں، اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

### ① - اونٹ کی زکوٰۃ کی تفصیل:

اونٹ کی تعداد	4-1	9-5	14-10	19-15	24-20
زکوٰۃ نہیں	زکوٰۃ نہیں	1 بکری	2 بکریاں	3 بکریاں	4 بکریاں
35-25	45-36	60-46	75-61	90-76	120-91
1 بنت لبون	1 جنم	1 حقہ	2 بنت لبون	2 حقہ	4 بنت لبون

**نوٹ:** جب اونٹوں کی تعداد (120) سے زیاد ہو جائے تو ہر چالیس بکریوں میں ایک بنت لبون اور ہر چالیس بکریوں میں ایک حقہ زکوٰۃ واجب ہے، مثال کے طور پر درج ذیل چارٹ ملاحظہ کریں:

129-121	139-130	149-140	159-150	169-160
3 بنت لبون	1 بنت لبون	2 حقہ 1 بنت لبون	3 حقہ	4 بنت لبون

بنت مخاض: اونٹی کا ایک سال کا مادہ بچہ۔      بنت لبون: اونٹی کا دوسال کا مادہ بچہ۔

حقہ: اونٹی کا تین سال کا مادہ بچہ۔      جنم: اونٹی کا چار سال کا مادہ بچہ۔

**②- گائے کی زکوٰۃ کی تفصیل:**

79-70	69-60	59-40	39-30	29-1	گائے کی تعداد
مقدار زکوٰۃ	زکوٰۃ نہیں	1 تبعیع یا تبعیع	1 تبعیع	2 تبعیع	1 منہ 1 تبعیع

**نحوٗ:** جب گائے کی تعداد (70) سے زیادہ ہو جائے تو ہر تین گائے میں ایک

تبعیع، اور ہر چالیس گائے میں ایک منہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل

چارٹ ملاحظہ کریں:

129-120	119-110	109-100	99-90	89-80
3 منہ یا 4 تبعیع	2 منہ 1 تبعیع	1 منہ 2 تبعیع	3 تبعیع	2 منہ

**③- بکری کی زکوٰۃ کی تفصیل:**

399-201	200-121	120-40	39 -1	بکریوں کی تعداد
3 بکریاں	2 بکریاں	1 بکری	کوئی زکوٰۃ نہیں	مقدار زکوٰۃ

**نحوٗ:** اگر دو سو بکریوں سے ایک زیادہ ہو جائے تو اس میں تین بکریاں زکوٰۃ میں

نکالنا واجب ہے، پھر اس کے بعد ہر ایک سو بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ واجب

ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل چارٹ ملاحظہ کریں:

899-800	799-700	699-600	599-500	499-400
8 بکریاں	7 بکریاں	6 بکریاں	5 بکریاں	4 بکریاں

### چوتھی قسم: سامان تجارت

اس سے مقصود ہر وہ سامان ہے جسے دکانوں، شوروں مزا اور سپر مارکٹس وغیرہ میں تجارت اور فروخت کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے: کپڑے، کھانے پینے کی چیزوں اور اس کے متعلقات، گاڑیاں، مشینی، تعمیراتی میٹر میل، اسپیر پارٹس اور دیگر آلات۔ اسی طرح تجارت و فروخت کے غرض سے تیار کی گئی عمارتیں، اراضی (زمینیں)، نیز فروخت و تجارت کے مقصد کے لیے مخصوص ہر قسم کے مویشی و چوپائے۔

ہر قسم کے سامان تجارت میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

”ہم جو کچھ فروخت (تجارت) کے لیے تیار کرتے تھے رسول اللہ ﷺ ہمیں اس سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے۔“  
(ابوداؤد، یہیقی، دارقطنی).

جب سامان تجارت کی مالیت چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال کا عرصہ گذر جائے، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر

اڑھائی فیصد (2.5%) رکوٰۃ نکالی جائے گی۔ واضح رہے کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ اس کی قیمت سے نکالی جائے گی، بذات خود سامان سے نہیں، یعنی سامان تجارت کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تاجر سال میں ایک دن مقرر کر لے، اور ہر سال اس دن اپنے تمام تجارتی سامان کی مالیت (قیمت) کا اندازہ لگا کر اس میں اڑھائی فیصد زکوٰۃ نکال دے۔ (معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینہ میں زکوٰۃ نکالنا افضل ہے؛ اس لیے کہ اس ماہ میں ایک فریضہ کا ثواب ستر فریضے کے برابر ملتا ہے، نیز بعض صحابہ سے وارد ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے)۔

اگر زمین و جائداد کے اندر آدمی کا حصہ (شیر) ہے تو سال پورا ہونے پر اس کی مالیت (قیمت) دریافت کر کے اپنے حصہ کی زکوٰۃ نکالے۔

جوز میں وجادہ، گاڑیاں اور گھر و مکان وغیرہ ذاتی استعمال کے لیے مخصوص ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کرایہ پر دینے کے لیے مخصوص کردہ چیزوں (مثلاً عمارتوں، گاڑیوں، ہوٹلوں وغیرہ) میں بھی زکوٰۃ

نہیں ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والے کرایے (اجرت) میں سال  
گذرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔

آدمی کا جو مال کسی کے پاس قرض ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے،  
لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ قرض کسی مالدار شخص پر ہے جس سے کسی  
بھی وقت واپس لی جاسکتی ہے، تو اس میں ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، البتہ  
اگر وہ قرض کسی غریب شخص پر ہے جس سے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے،  
یا ایسے شخص پر ہے جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسی صورت  
میں اس قرض پر ہر سال زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مگر جب وہ قرض واپس مل  
جائے تو اس میں ایک سال کی زکاۃ نکالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آدمی کا مال  
یا اس کی قیمت گرا کھوں کے پاس پھنس گئی ہے؛ اس کے ملنے کی امید نہیں  
ہے تو اس کے ملنے پر ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

(عطاء الرحمن ضياء اللہ)\*

## فہرست موضوعات

صفہ نمبر	موضوع
3	مقدمہ
4	پہلی فصل: روزہ کے حکم کے بیان میں
7	دوسرا فصل: روزہ کی حکمتوں اور اس کے فوائد کے بیان میں
12	تیسرا فصل: مریض اور مسافر کے روزے کے حکم کے بیان میں
20	چوتھی فصل: مفسدات صیام (روز توڑنے والی چیزوں) کے بیان میں
27	پانچویں فصل: تراویح کے بیان میں
30	چھٹی فصل: زکوٰۃ اور اس کے فوائد کے بیان میں
42	ساتویں فصل: زکوٰۃ کے مصارف کے بیان میں
48	آٹھویں فصل: زکوٰۃ فطر کے بیان میں
51	چند منتخب فتاوے
57	کیفیت زکوٰۃ کے متعلق ایک ضمیمہ
67	فہرست موضوعات